

# Fitnah A Araish and Zebaish Kaa! {Trial of (Ornaments and Glamour)!}

**Quran:** Reward from ALLAH(SWT) FOR LEADING A GOOD LIFE!

**Surath Al-Ahzab CHAPTER# 33 VERSE# 35**

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ  
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Inna almuslimeena waalmuslimati waalmumineena waalmuminati Transliteration  
waalqaniteena waalqanitati waalssadiqeena waalssadiqati 35:  
waalssabireena waalssabirati waalkhashiAAeena waalkhashiAAati  
waalmutasaddiqeena waalmutasaddiqati waalssaimeena waalssaimati  
waalhafitheena furoojahum waalhafithati waalththakireena Allaha  
katheeran waalththakirati aAAadda Allahu lahum maghfiratan  
wajran AAatheeman

Verily, the Muslims (those who submit to **ALLAH(SWT)**), in Islam) English: 35:  
men and women, the believers men and women (who believe in  
Islamic Monotheism), the men and the women who are obedient (to  
**ALLAH(SWT)**), the men and women who are truthful (in their  
speech and deeds), the men and the women who are patient (in  
performing all the duties which **ALLAH(SWT)**), has ordered and in  
abstaining from all that **ALLAH(SWT)**), has forbidden), the men and  
the women who are humble (before their Lord - **ALLAH(SWT)**),),  
the men and the women who give Sadaqat (i.e. Zakat, and alms), the

men and the women who observe Saum (fast) (the obligatory fasting during the month of Ramadan, and the optional Nawafil fasting), the men and the women who guard their chastity (from illegal sexual acts) and the men and the women who remember **ALLAH(SWT)**), much with their hearts and tongues **ALLAH(SWT)**), has prepared for them forgiveness and a great reward (i.e. Paradise).

Urdu 35: بیشک اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور ایمان دار مردوں اور ایماندار عورتوں اور فرمانبردار مردوں اور فرمانبردار عورتوں اور سچے مردوں اور سچی عورتوں اور صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور روزہ دار مردوں اور روزہ دار عورتوں اور پاک دامن مردوں اور پاک دامن عورتوں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کیا ہے

### WORD-by-WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(33:35:1) inna Indeed,	إِنَّ ACC	ACC – accusative particle حرف نصب
(33:35:2) I-mus'limāna the Muslim men	الْمُسْلِمِينَ PN	PN – accusative masculine plural (form IV) active participle → Islam اسم علم منصوب
(33:35:3) wal-mus'limāti and the Muslim women,	وَالْمُسْلِمَاتِ N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural (form IV) active participle الواو عاطفة اسم منصوب

<p>(33:35:4) wal-mu'mināna and the believing men</p>	<p>وَالْمُؤْمِنِينَ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural (form IV) active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:5) wal-mu'mināti and the believing women,</p>	<p>وَالْمُؤْمِنَاتِ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural (form IV) active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:6) wal-qānitīna and the obedient men</p>	<p>وَالْقَانِتِينَ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:7) wal-qānitāti and the obedient women,</p>	<p>وَالْقَانِتَاتِ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>

<p>(33:35:8) wal-ṣādiqīna and the truthful men</p>	<p>وَالصّٰدِقِيْنَ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:9) wal-ṣādiqāti and the truthful women,</p>	<p>وَالصّٰدِقَاتِ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:10) wal-ṣābirīna and the patient men</p>	<p>وَالصّٰبِرِيْنَ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:11) wal-ṣābirāti and the patient women,</p>	<p>وَالصّٰبِرَاتِ •        • N    CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>

<p>(33:35:12) wal-khāshi‘īna and the humble men</p>	<p>وَالْخَاشِعِينَ •           • N   CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:13) wal-khāshi‘āti and the humble women,</p>	<p>وَالْخَاشِعَاتِ •           • N   CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:14) wal- mutaṣadiqīna and the men who give charity</p>	<p>وَالْمُتَصَدِّقِينَ •           • N   CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural (form V) active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:15) wal-mutaṣadiqāti and the women who give charity</p>	<p>وَالْمُتَصَدِّقَاتِ •           • N   CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural (form V) active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>

<p>(33:35:16) wal-ṣāimāna and the men who fast</p>	<p>وَالصَّائِمِينَ • • N CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:17) wal-ṣāimāti and the women who fast,</p>	<p>وَالصَّائِمَاتِ • • N CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:18) wal-hāfizāna and the men who guard</p>	<p>وَالْحَافِظِينَ • • N CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب</p>
<p>(33:35:19) furūjahum their chastity</p>	<p>فُرُوجَهُمْ • • PRON N</p>	<p>N – accusative masculine plural noun PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالإضافة</p>

(33:35:20) wal-ḥāfizāti and the women who guard (it),	وَالْحَافِظَاتِ N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب
(33:35:21) wal-dhākirīna and the men who remember	وَالذَّاكِرِينَ N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب
(33:35:22) I-laha <b>ALLAH(SWT)</b> ,	اللَّهِ PN	PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب
(33:35:23) kathīran much	كَثِيرًا ADJ	ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective صفة منصوبة
(33:35:24) wal-dhākirāti and the women who remember	وَالذَّاكِرَاتِ N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative feminine plural active participle الواو عاطفة اسم منصوب

(33:35:25) a'adda <b>ALLAH(SWT)</b> , has prepared	أَعَدَّ • V	V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb فعل ماض
(33:35:26) l-lahu <b>ALLAH(SWT)</b> , has prepared	اللَّهُ • PN	PN – nominative proper noun → Allah لفظ الجلالة مرفوع
(33:35:27) lahum for them	لَهُمْ • PRON P	P – prefixed preposition lām PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun جار ومجرور
(33:35:28) maghfiratan forgiveness	مَغْفِرَةً • N	N – accusative feminine indefinite noun اسم منصوب
(33:35:29) wa-ajran and a reward	وَأَجْرًا • N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine indefinite noun الواو عاطفة اسم منصوب
(33:35:30) 'azīman great.	عَظِيمًا • ADJ	ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective صفة منصوبة



**Quran:** ALLAH(SWT) certifies MUHAMMAD (( صلى الله عليه وسلم) PBUH) IS THE BEST EXAMPLE TO BE FOLLOWED in order to be successful in hereafter!

**Surath Al-Ahazab CHAPTER# 33 VERSE# 21**

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Laqad kana lakum fee rasooli Allahi oswatun hasanatun liman kana Transliteration  
yarjoo Allaha waalyawma alakhira wathakara Allaha katheeran 21:

Indeed in the Messenger of ALLAH(SWT)), (Muhammad صلى الله عليه وسلم) English: 21:  
(عليه وسلم) you have a good example to follow for him who hopes for  
(the Meeting with) ALLAH(SWT)), and the Last Day, and  
remembers ALLAH(SWT)), much.

البتہ تمہارے لیے رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے Urdu 21:  
اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے

### WORD-by-WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(33:21:1) laqad Certainly,	لَقَدْ CERT EMPH	EMPH – emphatic prefix lām CERT – particle of certainty اللام لام التوكيد حرف تحقيق
(33:21:2) kāna is	كَانَ V	V – 3rd person masculine singular perfect verb فعل ماض
(33:21:3) lakum for you	لَكُمْ PRON P	P – prefixed preposition lām PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun

		جار ومجرور
(33:21:4) fī in	فِي P	P – preposition حرف جر
(33:21:5) rasūli (the) Messenger {MUHAMMAD (صلى الله عليه (PBUH) وسلم)}	رَسُولٍ N	N – genitive masculine noun اسم مجرور
(33:21:6) l-lahi (of) ALLAH(SWT),	اللَّهِ PN	PN – genitive proper noun → Allah لفظ الجلالة مجرور
(33:21:7) us'watun an excellent example	أُسْوَةٌ N	N – nominative feminine indefinite noun اسم مرفوع
(33:21:8) ḥasanatun an excellent example	حَسَنَةٌ N	N – nominative feminine indefinite noun اسم مرفوع

(33:21:9) liman for (one) who	لِمَنْ REL P	P – prefixed preposition lām REL – relative pronoun جار ومجرور
(33:21:10) kāna has	كَانَ V	V – 3rd person masculine singular perfect verb فعل ماض
(33:21:11) yarjū hope	يَرْجُو V	V – 3rd person masculine singular imperfect verb فعل مضارع
(33:21:12) l-laha (in) <b>ALLAH(SWT)</b> ,	اللَّهِ PN	PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب
(33:21:13) wal-yawma and the Day	وَالْيَوْمِ N CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) N – accusative masculine noun → Last Day الواو عاطفة اسم منصوب
(33:21:14) l-ākhirā the Last,	آلْءَاخِرِ N	N – accusative masculine singular noun اسم منصوب

(33:21:15) wadhakara and remembers	وَذَكَرَ V CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) V – 3rd person masculine singular perfect verb الواو عاطفة فعل ماض
(33:21:16) l-laha <b>ALLAH(SWT)</b> ,	اللَّهِ PN	PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب
(33:21:17) kathīran much.	كثيراً ADJ	ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective صفة منصوبة

## Meaning of word رجل {RIJAL}

Form	Part of speech	Root word
رَجُلٌ {A Free man not a slave}	NOUN	رجل

**Quran: All Messengers(PBUT) were men!**

**Surath Yusuf CHAPTER# 12 VERSE# 109**

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Wama arsalna min qablika illa rijalan noohee ilayhim min ahli Transliteration  
alqura afalam yaseeroo fee alardi fayanthuroo kayfa kana 109:  
AAaqibatu allatheena min qablihim waladaru alakhirati khayrun  
lillatheena ittaqaw afala taAqiloona

And WE {ALLAH(SWT)} sent not before you (as Messengers) any English: 109:  
but RIJAL {Free man/men is called Rijal} unto whom

WE {ALLAH(SWT)} revealed, from among the people of the townships. Have they not travelled in the land and seen what the end of those who were before them? And verily, the home of the Hereafter is the best for those who fear ALLAH(SWT) and obey HIM {ALLAH(SWT)} (by abstaining from sins and evil deeds, and by performing righteous good deeds). Do you not then understand?

اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے مرد Urdu 109:  
ہی تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے پھر وہ زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور البتہ آخرت کا گھر پرہیز کرنے والوں کے لیے بہتر ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے

### WORD-by-WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(33:21:1) laqad Certainly,	لَقَدْ CERT EMPH	EMPH – emphatic prefix lām CERT – particle of certainty اللام لام التوكيد حرف تحقيق
(12:109:1) wamā And not	وَمَا NEG CONJ	CONJ – prefixed conjunction wa (and) NEG – negative particle

		الواو عاطفة حرف نفي
(12:109:2) arsalnā WE{ <b>ALLAH(SWT)</b> } sent	أَرْسَلْنَا • • PRON V	V – 1st person plural (form IV) perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
(12:109:3) min before you,	مِنْ • P	P – preposition حرف جر
(12:109:4) qablīka before you,	قَبْلِكَ • • PRON N	N – genitive noun PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
(12:109:5) illā but	إِلَّا • RES	RES – restriction particle أداة حصر
(12:109:6) rijālan men {Free men not a slave}	رِجَالًا • N	N – accusative masculine plural indefinite noun اسم منصوب

**Quran:** Eela{ A oath taken by husband not to get sexually involved with his wife/wives (**Maximum allowed time is four months**)}

**Surath Al-Baqara CHAPTER# 2 VERSE# 226**

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Lillatheena yuloona min nisaihim tarabbusu arbaAAati ashhurin fain Transliteration  
faoo fainna Allaha ghafoorun raheemun 226:

Those who take an oath not to have sexual relation with their wives English: 226:  
must wait for 4 months, then if they return (change their idea in this  
period), verily, **ALLAH(SWT)** is OFT-FORGIVING, MOST  
MERCIFUL.

جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی  
مہلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے Urdu 226:

### WORD-by-WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(2:226:1) lilladhīna For those who	لِّلَّذِينَ REL P	P – prefixed preposition lām REL – masculine plural relative pronoun جار ومجرور
(2:226:2) yu'lūna swear (off)	يُؤْلُونَ PRON V	V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb PRON – subject pronoun فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

(2:226:3) min from	<p>مِنْ</p> <p>P</p>	P – preposition حرف جر
(2:226:4) nisāihim their wives	<p>نِسَائِهِمْ</p> <p>PRON N</p>	N – genitive feminine plural noun PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
(2:226:5) tarabbuṣu (is a) waiting (of)	<p>تَرَبُّصٌ</p> <p>N</p>	N – nominative masculine (form V) verbal noun اسم مرفوع
(2:226:6) arba'ati four	<p>أَرْبَعَةٌ</p> <p>N</p>	N – genitive feminine noun اسم مجرور
(2:226:7) ashhurin months,	<p>أَشْهُرٍ</p> <p>N</p>	N – genitive masculine plural indefinite noun اسم مجرور
(2:226:8) fa-in then if	<p>فَإِنْ</p> <p>COND REM</p>	REM – prefixed resumption particle COND – conditional particle الفاء استئنافية حرف شرط



(2:226:9) fāū they return -	فَاءُ PRON V	V – 3rd person masculine plural perfect verb PRON – subject pronoun فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
(2:226:10) fa-inna then indeed,	فَإِنَّ ACC RSLT	RSLT – prefixed result particle ACC – accusative particle الفاء واقعة في جواب الشرط حرف نصب
(2:226:11) l-laha <b>ALLAH(SWT)</b>	اللَّهِ PN	PN – accusative proper noun → Allah لفظ الجلالة منصوب
(2:226:12) ghafūrun (is) OFT-FORGIVING,	غَفُورٌ N	N – nominative masculine singular indefinite noun اسم مرفوع
(2:226:13) raḥīmun MOST MERCIFUL.	رَحِيمٌ ADJ	ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective صفة مرفوعة

**Quran: About women in general!**

**Surath Al-Zukhruf CHAPTER# 43 VERSE# 18**

## أَوْ مَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ






Awaman yunashshao fee alhilyati wahuwa fee alkhisami ghayru mubeenin Transliteration 18:

(Like they then for **ALLAH(SWT)**) a creature who is brought up in adornments (wearing silk and gold ornaments, i.e. women), and who in dispute cannot make herself clear? Mohsin Khan: 18:

Urdu 18: کیا اس کے لیے وہ بے جو زیور میں پلتی ہے اور وہ جھگڑتے میں بات نہیں کر سکتی

### WORD-by-WORD TRANSLATION WITH GRAMMAR

(43:18:1) awaman Then (is one) who	<p>أَوْ مَنْ</p> <p>REL SUP INTG</p>	<p>INTG – prefixed interrogative alif SUP – prefixed supplemental particle REL – relative pronoun الهمزة همزة استفهام الواو زائدة اسم موصول</p>
(43:18:2) yunasha-u is brought up	<p>يُنَشَأُ</p> <p>V</p>	<p>V – 3rd person masculine singular (form II) passive imperfect verb فعل مضارع مبني للمجهول</p>
(43:18:3) fī in	<p>فِي</p> <p>P</p>	<p>P – preposition حرف جر</p>
(43:18:4) l-hil'yati ornaments	<p>الْحِلْيَةِ</p> <p>N</p>	<p>N – genitive feminine noun اسم مجرور</p>

(43:18:5) wahuwa and she/he	 <p>وَهُوَ PRON CONJ</p>	<p>CONJ – prefixed conjunction wa (and) PRON – 3rd person masculine/feminine singular personal pronoun الواو عاطفة ضمير منفصل</p>
(43:18:6) fī in	 <p>فِي P</p>	<p>P – preposition حرف جر</p>
(43:18:7) l-khiṣāmi the dispute	 <p>الْخِصَامِ N</p>	<p>N – genitive masculine plural noun اسم مجرور</p>
(43:18:8) ghayru (is) not	 <p>غَيْرُ N</p>	<p>N – nominative masculine noun اسم مرفوع</p>
(43:18:9) mubīnin clear.	 <p>مُبِينٍ N</p>	<p>N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle اسم مجرور</p>

**Hadith:** The eyes that starts the fitnah and Private parts testifies it!

## {Most of the Ummah falsely believes that first gaze is forgiven but the truth is unintentional first gaze is forgiven!}

**BUKHARI#6243** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّوْنِ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ، وَالتَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ "

Narrated Ibn `Abbas: I have not seen a thing resembling 'lamam' (minor sins) than what Abu Huraira 'narrated from the Prophet who said "Allah has written for Adam's son his share of adultery which he commits inevitably. The adultery of the eyes is the sight (to gaze at a forbidden thing), the adultery of the tongue is the talk, and the inner self wishes and desires and the private parts testify all this or deny it."

ہم سے حمیدی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا ، ان سے ابن طاؤس نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی - ( حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں ) مجھ سے محمود نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے خبر دی ، کہا ہم کو معمر نے خبر دی ، انہیں ابن طاؤس نے ، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلہ میں نہیں دیکھی جسے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملہ میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہو گا پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے ، زبان کا زنا بولنا ہے ، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے ۔

**RIYAD-AS-SALIHIN#1622** وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه"

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) said: The Prophet (ﷺ) said, "Allah has written the very portion of Zina which a man will indulge in. There will be no escape from it. The Zina of the eye is the (lustful) look, the Zina of the ears is the listening (to voluptuous songs or talk), the Zina of the tongue is (the licentious) speech, the Zina of the hand is the (lustful) grip, the Zina of the feet is the walking (to the place where he intends to commit Zina), the heart yearns and desires and the private parts approve all that or disapprove it."

**BUKHARI#6612** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَهَ، فَرَزْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، وَيُكَذِّبُهُ ". وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرَقَاءُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Narrated Ibn `Abbas: I did not see anything so resembling minor sins as what Abu Huraira said from the Prophet, who said, "Allah has written for the son of Adam his inevitable share of adultery whether he is aware of it or not: The adultery of the eye is the looking (at something which is sinful to look at), and the adultery of the tongue is to utter (what it is unlawful to utter), and the inner self wishes and longs for (adultery) and the private parts turn that into reality or refrain from submitting to the temptation."

مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ، کہا ہم کو معمر نے خبر دی ، انہیں ابن طاؤس نے ، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یہ جو لمم کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو میں لمم کے مشابہ اس بات سے زیادہ کوئی بات نہیں جانتا جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ لکھ دیا ہے جس سے اسے لامحالہ گزرنا ہے ، پس آنکھ کا زنا ( غیر محرم کو ) دیکھنا ہے ، زبان کا زنا غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے ، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے ۔ اور شبابہ نے بیان کیا کہ ہم سے ورقاء نے بیان کیا ، ان سے ابن طاؤس نے ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس حدیث کو نقل کیا ۔

**SUNAN-ABI-DAWUD#2152** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ مَعْمَرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَهَ فَرَزْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ " .

Ibn `Abbas said "I did not see anything more resembling to minor sins than what Abu Hurairah reported from the Prophet (ﷺ) who said "Allaah has decreed for the children of Adam a share in adultery, he will get it by all means, the adultery of eyes is looking; the adultery of tongue is speaking; the soul desires, and has a passion; the private parts confirms or falsifies it."

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ( قرآن میں وارد لفظ ) «لمم» ( چھوٹے گناہ ) کے مشابہ ان اعمال سے زیادہ کسی چیز کو نہیں پایا جو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث میں مذکور ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " اللہ تعالیٰ نے زنا کا جتنا حصہ ہر شخص کے لیے لکھ دیا ہے وہ اسے لازمی طور پر پا کر رہے گا ، چنانچہ آنکھوں کا زنا ( غیر محرم کو بنظر شہوت ) دیکھنا ہے زبان کا زنا (

غیر محرم سے شہوت کی ( بات کرنی ہے ، ( انسان کا ) نفس آرزو اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے “ -

## **Hadith: The husband of Barira(r.a.) { Mughithh } became insane in love for Barira(r.a)!**

**BUKHARI#5281** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فَلَانٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَّبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، يَبْكِي عَلَيْهَا.

Narrated Ibn `Abbas: That was Mughith, the slave of Bani so-and-so, i.e., Barira's husband as if I am now looking at him following her (Barira) along the streets of Medina.

ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا ، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یہ مغیث بنی فلاں کے غلام تھے ۔ آپ کا اشارہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کی طرف تھا ۔ گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں ۔

**BUKHARI#5283** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ " يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا " . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ رَاجَعْتَهُ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ " إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ " . قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

Narrated Ibn `Abbas: Barira's husband was a slave called Mughith, as if I am seeing him now, going behind Barira and weeping with his tears flowing down his beard. The Prophet (ﷺ) said to `Abbas, "O `Abbas ! are you not astonished at the love of Mughith for Barira and the hatred of Barira for Mughith?" The Prophet (ﷺ) then said to Barira, "Why don't you return to him?" She said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! Do you order me to do so?" He said, "No, I only intercede for him." She said, "I am not in need of him."

ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی ، کہا ہم سے خالد حذاء نے ، ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیث تھا ۔ گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہو رہی تھی ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ، عباس ! کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی ؟ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کاش ! تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتیں ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف سفارش کر رہا ہوں ۔ انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے ۔



**SUNAN-AN-NASSAI#5417** أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَنِّ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَيَّ لِحَيْثِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ " يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا " . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي . قَالَ " إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ " . قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

Narrated from Ibn 'Abbas that: The husband of Barirah was a slave called Mughith. It is as if I can see him walking behind her weeping, with the tears running down onto his beard. The Prophet [SAW] said to Al-'Abbas: "O 'Abbas, are you not amazed by the love of Mughith for Barirah and the hatred of Barirah for Mughith?" The Messenger of Allah [SAW] said to her: "Why don't you take him back, for he is the father of your child?" She said: "O Messenger of Allah, are you commanding me (to do so)?" He said: "I am just interceding." She said: "I have no need of him."

**SUNAN-IBN-MAJAH#2153** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخَعِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ زَوْجَ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَيَّ خَذَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعَبَّاسِ " يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا " . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ " إِنَّمَا أَشْفَعُ " . قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .

Narrated that Ibn 'Abbas said: "The husband of Barirah was a slave called Mughith. It is as if I can see him now, walking behind her and weeping, with tears running down his cheeks. The Prophet (ﷺ) said to 'Abbas: 'O Abbas, are you not amazed by the love of Mughith for Barirah, and the hatred of Barirah for Mughith?' And the Prophet said to her: Why don't you take him back, for he is the father of your child?' She said: 'O Messenger of Allah, are you commanding me (to do so)?' He said: 'No, rather I am interceding.' She said: 'I have no need of him.' "

**Hadith:** The only time a women is allowed in Islam to have a haircut (Only clipping not shaving) is Haaj!

**SUNAN-ABI-DAWUD#1984 ;1985** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ عُثْمَانَ، قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ عُمَانَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ النَّقْصِيرُ " .

Narrated Abdullah ibn Abbas: The Prophet (ﷺ) said: Shaving is not a duty laid on women; only clipping the hair is incumbent on them.

عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” عورتوں پر حلق نہیں ہے “ صرف «تقصیر» ( بال کٹانا ) ہے

**Hadith: MUHAMMAD (صلی اللہ علیہ وسلم) PBUH) cursed the women who tattoos and women who does plucking and the one who changes their dentures or the creation of ALLAH(SWT) in the name of beauty!**

**BUKHARI#5948** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

Narrated `Abdullah: ALLAH(SWT) has cursed those women who practise tattooing and those who get themselves tattooed, and those who remove their face hairs, and those who create a space between their teeth artificially to look beautiful, and such women as change the features created by Allah. Why then should I not curse those whom the Prophet (ﷺ) has cursed? And that is in Allah's Book. i.e. His Saying: 'And what the Apostle gives you take it and what he forbids you abstain (from it).' (59.7)

ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا ، ان سے منصور بن معتمر نے ، ان سے ابراہیم نخعی نے ، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے گودنے والیوں ، گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں پر ، جو اللہ کی خلقت کو بدلیں ان سب پر لعنت بھیجی ہے ، میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور اس کی دلیل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خود قرآن مجید میں موجود ہے ۔ آیت ” وما اتکم الرسول فخذوه “ ہے

**SUNAN-AN-NASSAI#5099** أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ .

Narrated that 'Abdullah said: "The Messenger of Allah [SAW] cursed the women who do tattoos and the women who have them done, Al-Mutanammissat, and the women



who have their teeth separated for the sake of beauty, those who change (the creation of Allah.)"

**SUNAN-AN-NASSAI#5255** أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ أَلَا أَلَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Narrated that Ibrahim said: "Abdullah used to say: 'May Allah curse the women who have tattoos done and Al-Mutanammisat, and have the women who have their teeth separated. Should I not curse those whom the Messenger of Allah [SAW] cursed?'"

**JAMI-AT-TIRMIDHI#3010** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عبيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَيْمَةِ عَنْ مَنْصُورٍ .

Narrated 'Abdullah: that the Prophet (ﷺ) cursed the women who practice tattooing and those who seek to be tattooed, the women who remove hair from their faces seeking beautification by changing the creation of Allah.

**SUNAN-AN-NASSAI#5108** أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الْعُزَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ اللَّاتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

Narrated that 'Abdullah said: "I heard the Messenger of Allah [SAW] cursing Al-Mutanammisat, women who have their teeth separated, and women who have tattoos done, those who change the creation of Allah, the Mighty and Sublime."

**BUKHARI#5943** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

Narrated Ibn Mas`ud: Allah has cursed those women who practise tattooing or get it done for themselves, and those who remove hair from their faces, and those who create spaces between their teeth artificially to look beautiful, such ladies as change the features created by Allah. Why then shall I not curse those whom Allah's Messenger (ﷺ) has cursed and who are cursed in Allah's Book too?

مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبدالله بن مبارک نے خبر دی ، کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی ، انہیں منصور نے ، انہیں ابراہیم نخعی نے ، انہیں علقمہ نے اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے

والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، لعنت بھیجی ہے پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے

**Hadith: The Messenger MUHAMMAD (صلی اللہ علیہ وسلم) PBUH of ALLAH(SWT) also cursed the men and women who imitate opposite gender!**

**BUKHARI#5885** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

Narrated Ibn `Abbas: Allah's Messenger (ﷺ) cursed those men who are in the similitude (assume the manners) of women and those women who are in the similitude (assume the manners) of men.

ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ غندر کے ساتھ اس حدیث کو عمرو بن مرزوق نے بھی شعبہ سے روایت کیا۔

**JAMI-AT-TIRMIDHI#3013** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Narrated Ibn 'Abbas: "The Messenger of Allah (ﷺ) cursed the women who imitate men and the men who imitate women."

**JAMI-AT-TIRMIDHI#3014** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ.

Narrated Ibn 'Abbas: "The Messenger of Allah (ﷺ) cursed those men who behave effeminately and those women whose behavior is masculine."

**SUNAN-ABI-DAWUD#4097** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

Narrated Ibn 'Abbas: The Prophet (ﷺ) cursed women who imitate men and men who imitate women.

**SUNAN-ABI-DAWUD#4099** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لَوْيْنٌ - وَبَعْضُهُ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ أَمْرَأَةً تَلْبَسُ النَّعْلَ . فَقَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ .

Ibn AbuMulykah told that when someone remarked to Aisha that a woman was wearing sandals, she replied: The Messenger of Allah (ﷺ) cursed mannish women.

**SUNAN-IBN-MAJAH#1978** حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَنْتَسِبُهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَنَسَّبُهُ بِالنِّسَاءِ .

Narrated from Abu Hurairah: that the Messenger of Allah cursed women who imitate men and men who imitate women.

**SUNAN-IBN-MAJAH#1979** حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

Narrated from Ibn 'Abbas: that the Prophet cursed men who imitate women and woman who imitate men.

**RIYAD-AS-SALIHIN#1631** وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء.

وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

Ibn 'Abbas (May Allah be pleased with them) said: The Messenger of Allah (ﷺ) cursed those men who are effeminate, and women who imitate men. Another narration is: The Messenger of Allah (ﷺ) cursed men who copy women and cursed women who copy men.